

**Maulana Azad National Urdu University**  
**M.Sc. (Zoology) I Semester Examination, December 2023**

**MSZY102CCT : Bio-Molecules and their Functions**

**پرچہ : بیو مالکیوں اور ان کے افعال**

Time : 3 hrs

Marks : 70

**ہدایات:**

یہ پرچہ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ ہر جواب کے لئے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں 10 لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات/ غالی جگہ پر کرنا/ منحصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔  $(10 \times 1 = 10 \text{ Marks})$

2. حصہ دوم میں آٹھ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی پانچ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً دو سو (200) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 6 نمبرات مختص ہیں۔  $(5 \times 6 = 30 \text{ Marks})$

3. حصہ سوم میں پانچ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی تین سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً پانچ سو (500) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔  $(3 \times 10 = 30 \text{ Marks})$

**حصہ اول**

**سوال نمبر : 1**

(i) گلوکوز ایک مونوساکارائٹ ہے ایک..... ہے۔

(ii) دو مونوساکارائٹ کے درمیان ربط ایک..... باعث ہے۔

(iii) ایک پر کی مثال..... اور..... ہیں۔

(iv) آر۔ این۔ اے ایک..... اسٹرینڈ مالکیوں ہے۔

(v) آر۔ این۔ اے از ائمزر (RNA Enzymes) کو..... کہا جاتا ہے۔

(vi) ..... نے انعام سب ستریٹ بائسٹنڈنگ (Enzyme Substrate Binding) کے لیے Lock & Key مائل تجویز کیا؟

(vii) مائیکلس - مینٹن Equation ..... ہے۔

(viii) لیکٹوز (Lactose) ..... اور..... بنتا ہے۔

(ix) میکرو مولکیوں میکانزم میں خرابی کی ایک مثال ہے۔ Leishnyhan Syndrome

(x) خون میں گلوکوز کی زیادتی سے مرض..... لاحق ہوتا ہے۔

**حصہ دوم**

(2) پیڈس کی کیمیائی اور طبیعی خصوصیات بیان کیجیے۔

(3) مثالوں کے ساتھ ضروری اور غیر ضروری امینواسٹ کے بارے میں لکھیے۔

- ڈی۔ این۔ اے کی نقل کے عمل کی وضاحت کریں۔ (4)
- انزامئنر کی درجہ بندی (Enzyme Classification) اس کے عمل کی بنیاد پر لکھیں۔ (5)
- مناسب مثالوں کے ساتھ زیموجن (Zymogen) پر تبادلہ خیال کریں۔ (6)
- پھینل کیونوریا (Phenyl ketonuria) کیا ہے؟ (7)
- لائسوسومال اسٹوریج (Lysosomal Storage) کی خرابیوں سے متعلق Tay-Sachs بیماری کی وضاحت کریں۔ (8)
- مختلف پپورین اور پیراٹمین کے خاکے بنائیں۔ (9)

## حصہ سوم

- فیٹی ایسڈ کے بیٹا آکسیڈیشن کے بارے میں تفصیل سے لکھیں۔ (10)
- گلکتولیس کے عمل کی وضاحت کریں۔ (11)
- کاربوجنیٹ ریٹن کی درجہ بندی، ساخت اور افعال بیان کریں۔ (12)
- طبی علامات (Clinical Symtoms) کے ساتھ Galactosemia کا تفصیلی بیان دیں۔ (13)
- کیا ہے؟ Enzyme Inhibition کی مختلف اقسام پر تبادلہ خیال کریں۔ (14)

☆☆☆